


Form- A

## FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- \_\_\_\_\_ 1291/2022 \_\_\_\_\_


S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	05/09/2022	<p>The appeal of Mst. Bibi Zarina resubmitted today by Mr. Saadullah Khan Marwat Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____ . Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR .</p>

The appeal of Mst. Bibi Zarina, Ex-Sweeper, GGPS Nar Sahib Khan, District Lakki Marwat received today i.e. on 03.08.2022 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellatant for completion and resubmission within 15 days.

1. Checklist is not attached with the appeal.
2. Appeal has not been flagged/marked with annexure marks.
3. Annexures of the appeal may be attested.
4. Affidavit attested by the Oath Commissioner is not attached with the appeal.
5. Certificate be given to the effect that appellatant has not been filed any service appeal earlier on the subject matter before this Tribunal.
6. Copy of departmental representation annexed as Annexure D is not attached with the appeal.
7. Five more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 2355 /S.T,


Dt. 3/8 /2022

  
ASSISTANT REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Mr. Saad Ullah Khan Marwat Adv. Pesh.

Sir,

Re-submitted after removing  
the objections.



6

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A. No. 1291 /2022

Mst. Bibi Zarina

versus


DEO (F) & Others

**I N D E X**

S. No.	Documents Descriptions	Annex	Page #
1	Memo of Appeal		1-4
2	Appointment Order Dated 20-10-2017	"A"	5
3	Medical Leave Dated 16-08-2021	"B"	6
4	Stamp Paper for resign dated 18-11-2021	"C"	7-8
5	Accepted resignation dated 28-12-2021	"D"	9
6	Representation dated 03-01-2022	"E"	10
7	Civil Suit dated 06-01-2022	"F"	11-12
8	Appli 0-7, R-11 CPC dated 06-07-2022	"G"	13
9	Appli 0-7, R-11 CPC dated 13-07-2022	"H"	14-16
10	Application of return of Suit Dated 27-07-22	"I"	17
11	Order of return of Suit Dated 27-07-2022	"J"	18

Appellant

Through



Saadullah Khan Marwat

Advocate

21-A, Nasir Mansion,  
Shoba Bazaar, Peshawar

Dated 02-08-2022

Ph: 0300-5872676

**BEFORE THE KP SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**Appeal No. 1291 / 2022

Mst. Bibi Zarina W/O Tariq Rahim,  
 R/O Nar Sahib Khan, Sarai Nourang,  
 Lakki Marwat. Ex-Sweeper, Govt. Girls  
 Primary School, Nar Sahib Khan. . . . . Appellant(s)

Khyber Pakhtunkhwa  
Service TribunalDiary No. 895Dated 02/08/2022**Verses**

1. District Education Officer (F),  
Lakki Marwat.
2. Director, Elementary & Secondary  
Education Department, GT Road  
Hashtnagri, Peshawar City.
3. Secretary, Elementary & Secondary  
Education Department,  
Govt. of KP. . . . . Respondent(s)

⇔&lt;=&gt;⇔&lt;=&gt;⇔&lt;=&gt;⇔&lt;=&gt;⇔

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE SERVICE  
 TRIBUNAL ACT, 1974 AGAINST OFFICE ORDER  
 NO. 6037-41 DATED 28-12-2021 OF R. NO. 01  
 WHEREBY RESIGNATION of APPELLANT WAS  
 ACCEPTED WITH EFFECT FROM 15-12-2021 AND  
 HER DEPARTMENTAL APPEAL WAS REJECTED IN  
 SHAPE OF WRITTEN STATEMENT DATED 13-07-  
 2022 FOR NO LEGAL REASON.**

⇔&lt;=&gt;⇔&lt;=&gt;⇔&lt;=&gt;⇔&lt;=&gt;⇔=

**Respected Sir:**

1. That on 20-10-2017, appellant was appointed as Sweeper in prescribed manner on the recommendation of Departmental Selection Committee and was then posted at Govt. Girls Middle School Nar Sahib Khan by R. No. 01. (Copy as annex "A")

2. That on 16-08-2021, appellant was granted Earned / Medical leave along with others and her name was figured at S. No. 09. (Copy as annex "B")
3. That on 18-11-2021, alleged resignation was submitted on stamp paper before R. No. 01 tainting some unavoidable circumstances not by the appellant but by Muhammad Fawad relative by committing fraud and to appoint her own daughter. (Copy as annex "C")

Here it would be not out of place to mention that such stamp paper was scribed at Islamabad by the said M. Fawad and not by appellant. She being permanent resident of District Lakki Marwat has never gone to Islamabad nor the said stamp paper was taken by her under her signature.

4. That on 28-12-2021, R. No. 01 without ascertaining from appellant accepted the resignation with effect from 15-12-2021 retrospectively. (Copy as annex "D")
5. That on 03-01-2022, appellant submitted representation before the authority that she is neither aware nor had tendered any resignation from service but it was M. Fawad who did so to appoint her daughter. (Copy as annex "E")
6. That on 06-01-2022, appellant filed Civil Suit before the court of senior Civil Judge Lakki Marwat for declaration against the respondents mentioned therein which contents are very much clear regarding the so called bogus resignation. (Copy as Annex "F")
7. That notice of the said suit was served upon respondents and then on 06-07-2022, R. No. 06 (M. Fawad) submitted application before the hon'ble Court under O-7, R-11 CPC for rejection of the plaint regarding jurisdiction of the Court, followed by application of R. No. 1-4 & 7 for the said purpose on 13-07-2022. (Copies as annex "G" & "H")

8. That on 27-07-2022, appellant submitted application to return the said suit having no jurisdiction of the hon'ble Court in the subject matter and to approach before the proper forum. (Copy as annex "I")
9. That in pursuance of said application, the hon'ble Court was pleased to return the same to appellant to approach before the proper forum vide order dated 27-07-2022. (Copy as annex "J")

Hence, this appeal, inter alia on the following grounds:

**G R O U N D S.**

- a. That appellant never tendered resignation from service as there was no exigency to do so.
- b. That the so called Stamp Paper was never got from Stamp Seller for the purpose to tender resignation from service and that too at Islamabad. She never visited Islamabad but lives at Lakki Marwat.
- c. That the said Stamp Paper was taken by Muhammad Fawad relative for the purpose to submit the same before R. No. 01 to oust appellant from service and to appoint her sister at the said post.
- d. That the said Fawad has finalized appointment of her sister with the staff of R. No. 01 for consideration and she will be appointed in near future.
- e. That it was incumbent upon R. No. 01 to contact appellant as to whether she has submitted resignation with free will or otherwise but with closed eyes accepted the same without fulfilling codel formalities.
- f. That if appellant had tendered resignation from the post, then she would have not agitated the matter before the court of Senior Civil Judge, Lakki Marwat.
- g. That appellant has educational qualification up to middle standard and never thumb impress but used her signature over the documents. In the bogus Stamp paper dated 18-11-2021, the said Stamp paper is thumb impressed not by the appellant but by the said M. Fawad.


- h. That appellant was ousted from service through fraud committed by Muhammad Fawad with conveyance of R. No. 01 and her staff.
- i. That impugned order dated 28-12-2021 of R. No. 01 is not per the mandate of law, so is based on malafide.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of the appeal, order dated 28-12-2021 of the R. No. 01 be set aside and appellant be reinstated in service with all consequential benefits, with such other relief has may be deemed proper and just in the circumstance of the case.



Appellant


Through



Saadullah Khan Marwat



Arbab Saiful Kamal




Amjad Nawaz

Advocates

Dated: 02-08-2022

### CERTIFICATE:


As per instructions of my client, no such like Service Appeal has been earlier filed by the appellant before this hon'ble Tribunal.



Advocate

### AFFIDAVIT

I, Mst. Bibi Zarina W/O Tariq Rahim, R/O Nar Sahib Khan, Sarai Nourang, Lakki Marwat. Ex-Sweeper, Govt. Girls Primary School, Nar Sahib Khan (appellant), do hereby solemnly affirm and declare that contents of **Service Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief.



DEPONENT

## OFFICE ORDER:-

Consequent upon the recommendation of Departmental Selection Committee the appointment of the below named candidate are hereby ordered as Class-IV in BPS-03 RS: (9610-390-21310) plus usual allowance as admissible under the rules on regular basis, under the provision of Establishment & Administration Department circular bearing No. SOR-64/2005 & with under Notification issued by Director (E&S) Education Khyber Pakhtunkhwa No.3391:3441/Estab. Dated 24-02-2014, on the terms & conditions given below in the interest of Public Service from the date of taking over charge.

## RETIRED EMPLOYEE SON QUOTA

S.No.	Name	Father/Mother/Husband Name & Address	Post	To be posted at	Remarks
01	Najib Shah	Gul Zair Shah R/O Langer Maidad Khel Seral Naurang	Chowkidar	GGHS, Ghazni Khel	Against vacant post
02	Hamayun Khan	Sayed Ayaz Khan R/O Tajazi	Chowkidar	GGPS, No.2, Tajazi	Against vacant post
03	Amir Ullah	Abdul Qahar R/O Landi Mirsalam Tajari	Chowkidar	GGPS, Landi Mirsalam	Against vacant post

## OPEN MERIT

S.No.	Name	Father/Mother/Husband Name & Address	Post	To be posted at	Remarks
01	Nadia Rashid	Abdur Rashid R/O Abba Khel	Lab Attendant	GGHS, Sadar Khel Abba Khel	Against newly created Post
02	Muhammad Sajid	Sarwar Jan R/O Abba Khel	Chowkidar	GGHS, Sadar Khel Abba Khel	Against newly created post
03	Khan Begum	Wife of Abdul Malik R/O Kaka Khel	Sweeper	GGMS, Kaka Khel	Against newly created post
04	Bibi Zarina	Wife of Tariq Rahim R/O Nar Sahib Khan S/Naurang	Sweeper	GGMS, Nar Sahib Khan	Against vacant post
05	Afra Siyab Khan	Gul Amin Khan R/O Umer Titter Khel	Chowkidar	GGPS, Umer Titter Khel	Against vacant post
06	Shamshad Khan	Mir Abbas Khan R/O Achu Khel	Chowkidar	GGPS, Achu Khel	Against vacant post

## Terms &amp; Conditions:-

1. Their appointment will be considered on regular basis.
2. Their services will be liable to termination on one month notice from either side. In case of case resignation without notice one month pay/allowance will be refunded to Government.
3. Their services will be governed by such rules as the Govt. may issue regulations as from time to time.
4. Their services will be terminated at any time in case their performance are found unsatisfactory during probationary period, in case of misconduct preceded against them under the Khyber Pakhtunkhwa Govt. Servants (Efficiencies and Discipline) rules 2011 and the rules framed from time to time therein.
5. Charge reports should be submitted to all concerned.
6. No TA/DA is allowed.
7. The undersigned will check and verify the certificates/Degrees of the above named candidates from the concerned Board/University before the drawl of pay if any.
8. The order should stand cancelled if the appointee failed to take over charge within fifteen days of the commencement date or not performance of duty due to enmity or other reason.
9. The undersigned reserves the right of amendment of appointment order or cancellation in case of any mistake/error or omission.
10. They are required to produce their health and age certificate from the Medical Superintendent DHQ Hospital Lakki Marwat.
11. The undersigned will not be responsible for any dispute arising during the course of time in the performance of duty in the said station.
12. Their services will be liable to termination if it is pointed out at any stage of their service that they are their legal heirs have availed the prescribed Employee Son quota.

(Sabra Parveen)

District Education officer  
(Female) Lakki Marwat

Endst: No. 9646-54

Dated 20-10-2017

Copy to the:-

1. Director (E&S) Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy District Education Officer (Female) Lakki Marwat.
3. District Accounts Officer Lakki Marwat.
4. Sub Divisional Education Officer (Female) Lakki Marwat.
5. Sub Divisional Education Officer (Female) Seral Naurang.
6. Principals/Head Mistress/Head Teacher concerned schools.
7. District Monitoring Officer Lakki Marwat.
8. Candidates concerned.
9. Master File.

District Education officer  
(Female) Lakki Marwat





13 6 14-8-23

**Office of The District Education Officer  
Female Larki Marwat**

Ph: (0969)538030

mailto:deoflakki@punjab.gov.pk

**SANCTION:**

0368 5266399 681

Sanction are hereby accorded to the grant of Earned/Medical leave in respect of the following Female teachers as due and admissible to them under the revised Leave rules 1981. Detail is given below:

S.N	Name & Design	Name of School	From	To	Remarks
1-	Asma Inces PST	GGPS Gambila Wallatsha	09.08.2021	24.08.2021	15days Medical leave on Fullpay.
2-	Bashira Fatima PSHT	GGPS Chuhar khel	10.08.2021	10.10.2021	62days Earned leave on Fullpay.
3-	Salma Ara PST	GGPS Gaudi khun khel	16.07.2021	04.09.2021	50days Medical leave on Fullpay.
			05.09.2021	15.09.2021	11days Medical leave with out pay.
4-	Shahat Noreen CT	GGMS N.M.Ghazal khel	16.08.2021	25.08.2021	10days Earned leave on Fullpay.
5-	Rabia Gul PST	GGPS Toti Abad	09.08.2021	23.08.2021	15days Medical leave with outpay.
6-	Bibi Ruqia PST	GGPS Passani Aynz Khan	23.07.2021	01.08.2021	10days Medical leave Without pay.
7-	Nasreen Bibi S/Qaria	GGHSS Titter khel	05.08.2021	03.10.2021	60days Earned leave on Fullpay.
8-	Zahida Parveen SCT	GGHS Darra Peru.	2.07.2021	31.07.2021	30days Earned leave on fullpay.
9-	Bibi Zareena sweeper	GGMS Nar Sahib khun	16.07.2021	27.08.2021	43days Earned leave on Fullpay.
			28.08.2021	15.01.2021	137 days FOL without pay.

Note: 1. Necessary entry to this effect should be made in their service books.  
2. Conveyance allowance is not admissible during leave period.

District Education Officer  
(Female) Larki Marwat

Encl: No. 6034-37

Dated: 16/08/2021


Copy to the:-

1. DDEO (F) Larki Marwat.

2. District Monitoring Officer Larki Marwat.

3. Principal/Head Mistress/SDEO (S) concerned school.

District Education Officer  
(Female) Larki Marwat



بشدت جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ زنانہ لکی مروت

عنوان :- استثنیٰ منٹرو کیا جائے

جناب والدہ

گزارش ہے کہ لدیہ پلو رٹا گروپ GGMS نار صاحب خان ڈیوٹی سزا تمام دیں ہوں لدیہ چند ناگزیر حالات کی وجہ سے ایڈیوٹی جاری نہیں رکھ


سکتی ہیں

لدیہ آپ صاحبان میرا لیٹر نمبر 18-12-2021 تک میرا استثنیٰ منظور فرما کر منظور فرمادیں۔

Mir Alou

15/11/21

مورہ 18-11-2021



ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر

2

سائبر ریڈی بی بی خاں گروپ GGMS نار صاحب خان سرائے لورنگ ضلع لکی مروت

تعلقہ کارا لہور 4-6117810-11201

11201-3250841-2

Handwritten signature and stamp on the left side.

11201-3250841-1

Handwritten signature and stamp on the right side.

11201-3250841-9

لقیب السیاحہ

No. 158. dt: 15-11-2021.

RECEIVED stamp with date 15/11/2021 and District Officer details.

Handwritten signature at the bottom left.

Headmistress, Girls High School, Larkana.



16-11-2021 تاریخ

۴۵

۵۷۵۵

OFFICE

# بیان حلفی

سالمہ زریں بی بی فاکروب GGMS نار صاحب خان ہراسے ٹورنگ سٹریٹ کی مروت شناختی کارڈ نمبر 4-117610-61201

MIAN M. ABDULLAH  
MIAN G STAFF VENDOR  
License No. SA/MDRA/2019A  
Office # 10 Gulzar Arcade, G-13  
\* Islamabad. 0324-5971044



(2)

بیان حلفی  
میں نے اپنے تمام کاموں میں  
میرا سچا اور سادہ دماغی رویہ رکھنا  
پسند کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ  
میرے کاموں میں ہرگز کوئی  
غش یا فراڈ نہیں کیا ہے۔

Handwritten signature or stamp

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) LAKKI MARWAT  
OFFICE ORDER

Reference Headmistress Govt Girls Middle School Nar Sahib Khan Vide her School letter No. 158 dated. 15/11/2021

Consequent upon the resignation tendered by Mst. Zauna Bibi W/O Tariq Rahim Sweeper GGMS Nar Sahib Khan is hereby accepted w.e.f 15/12/2021 (F.N) on her own request.

- 1- Necessary entry to this effect should be made in her service book.


District Education Officer,  
(Female) Lakki Marwat

Encls: No 6 037-4.1

Dated. 28/12/2021

Copy for information to the:-

- 1- Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa
- 2- Deputy District Education Officer (Female) Local Office.
- 3- District Monitoring Officer EMA Lakki Marwat
- 4- District Accounts Officer Lakki Marwat.
- 5- Master File

  
District Education Officer  
(Female) Lakki Marwat.

مخدمت جہاں 3 انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ اور سینڈری ایجنسیوں کے نام پر

اپیل بابت بجائی برٹلا رسٹ

جہاں بجائی 1 دہلی عرض ہے

1 یہ کہ سالہ سال 2017 سے بجائی سروس پیرسٹریٹ ہوئی اور گورنمنٹ گریڈنگ سکول نارمہا مہاں میں مقیم ہوئی۔

2 یہ کہ مورخہ 21-12-28 کو جہاں ڈی ای او زمانہ نے ایسا قریب جاری کیا جسکی رو سے سالہ کی استغنیٰ منظور ہونے پر سروس سے ہر طرف کی گئی

3 یہ کہ سالہ کے نوئی استغنیٰ نہ دیا گیا بلکہ کسی نئی فریڈ سے جو کہ سالہ کا رشتہ دار ہے اور نہ ہی بجائی کو بھرتی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے یہ سارا سونو نامیں کھلا ہے

4 یہ کہ عدلہ کو چاہیے تھا کہ استغنیٰ منظور ہونے سے پہلے سالہ سے رابطہ کرے اور خود سافٹ استغنیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے یہی کالونی لفافہ ہے سالہ نے اپنی مرضی سے نوئی استغنیٰ نہیں دیا ہے اسلئے اسلئے کہ سالہ کو تمام سالہ قریب کے ساتھ

بجائی کر کے کا حکم ہمارے قریب ہے

المترجم - 22-01-03

الکافی سید  
قلمی بی بی زینبہ زوجہ طارق قاسم  
نارمہا مہاں الف سروس  
گورنمنٹ گریڈنگ سکول نارمہا مہاں کی طرف

## بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب لکی مروت

سماۃ بی بی زریبہ زوجہ طارق رحیم سکندہ نالا صاحب خان تحصیل سرانے نورنگ ضلع لکی مروت مدعیہ

بنام

(1) حکومت خیبر پختونخواہ بذریعہ سیکرٹری (E&S) ایجوکیشن خیبر پختونخواہ پشاور

(2) ڈائریکٹر (E&S) ایجوکیشن خیبر پختونخواہ پشاور

(3) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) ضلع لکی مروت

(4) ASDEO ایجوکیشن سب ڈویژن سرکل تجوڑی لکی مروت

(5) ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر لکی مروت

(6) محمد نواز ولد محمد اجمل خان سکندہ نالا صاحب خان سرانے نورنگ ضلع لکی مروت مدعا علیہم

(7) Exp. 17) بیڈ ماسٹر ایس سی G.G.M.S بیار صاحب خان سرانے نورنگ ضلع لکی مروت

Sidra Zariya  
SCJ (Judicial) Magistrate Section-30  
Lakki Marwat  
06/2/22

(الف) دعویٰ ملنے ڈگری استقراریہ بحق مدعیہ برخلاف مدعا علیہم بدیں مضمون کہ من مدعیہ بطور سو پیپر گورنمنٹ گراؤ

مڈل سکول نار صاحب خان سرانے نورنگ میں تعینات ہوں۔ اور اپنی ڈیوٹی باقاعدگی سے سرانجام دیتی رہی ہوں

جبکہ باقاعدہ چھٹی پر اپنے خاوند کے ساتھ انک میں چند دن گزارنے گئی ہوئی تھی۔ لیکن مدعا علیہ نمبر 6 نے اپنی

ہمشیرہ کی بھرتی کے لئے مدعا علیہم نمبر 3, 4 کے ساتھ ملکی بھگت کر کے من مدعیہ کی طرف سے ایک جھوٹی درخواست

دے کر من مدعیہ کی طرف سے مستعفی ہونے کی استدعا کی حالانکہ من مدعیہ نے ایسی کوئی استدعا نہ کی ہے اور نہ ہی

اپنی سروس چھوڑنا چاہتی ہوں۔ لیکن مدعا علیہم نمبر 6 کی ایما پر بوجس درخواست کے ذریعے من مدعیہ کی سروس

بروئے آرڈر مورخہ 28-12-2021 منسوخ کرنا غلط، مبنی بر بد نیتی، سازش، بغیر کسی نوٹس و شنوائی، خلاف

قانون اور خلاف واقعات ہے۔ اور من مدعیہ کے حقوق پر کالعدم اور غیر موثر ہے بمعہ خرچہ مقدمہ و وڈیگر دادرسی جو

قرین انصاف ہو

(ب) دعویٰ ملنے ڈگری حکم امتناعی دوا می، تاکیدی و حکمیہ بحق مدعیہ برخلاف مدعا علیہم بدیں مضمون کہ مدعا علیہم کو

ہدایت دی جاوے کہ وہ من مدعیہ کے سروس منسوخ حکم مورخہ 28-12-2021 منسوخ کریں، دیگر کسی کو بھی من

مدعیہ کی آسامی پر بھرتی نہ کریں اور اس قسم کے غیر قانونی اقدامات سے باز و ممنوع رہیں۔ بمعہ خرچہ مقدمہ و وڈیگر دادرسی

رسی جو قرین انصاف ہو۔

مدعی ذیل عرض کرتا ہے۔

جناب عالی!

(1) یہ کہ من مدعیہ بروئے آرڈر نمبر 9646 مورخہ 20-10-17 بطور سوپر گورنمنٹ گرلز میڈل سکول نار صاحب خان پر

بھرتی ہوئی اور باقاعدہ طور پر اپنی ڈیوٹی سرانجام دیتی آرہی ہوں۔ (نقل تعیناتی آرڈر لف ہیں)

(2) یہ کہ من مدعیہ محکمہ سے باقاعدہ چھٹی پر خاوند نام کے ساتھ انک میں رہائش پزیر تھی اور بوجہ بیماری حاضر ہونے سے قاصر

تھی۔ جس کا فائدہ اٹھا کر سوسٹیبلے دیورام امداعلیہ نمبر 6 نے ایک بوجس درخواست کے ذریعے من مدعیہ کی طرف مستغنی

ہونے کی استدعا کی حالانکہ من مدعیہ نے کوئی ایسی استدعا نہ کی ہے۔ جبکہ مدعا علیہ نمبر 6 اپنی ہمشیرہ کو مذکورہ آسامی پر بھرتی

کرنا چاہتا ہے۔ (نقول رخصت حکم، بوجس درخواست بابت مستغنی ہونے لف ہیں)

(3) یہ کہ مدعا علیہ نمبر 4 کا بغیر کسی نوٹس و شنوائی کے بروئے حکم مورخہ 28-12-2021 من مدعیہ کی سروس منسوخ کرنا غلط،

مبنی بر بدینتی، سازش، غیر منصفانہ اور من مدعیہ کے حقوق پر کالعدم اور غیر موثر ہیں۔ بدیں وجہ حکم مذکورہ قابل منسوخی

ہیں۔ (نقل حکم مورخہ 28-12-2021 لف ہے)

(4) یہ کہ مدعا علیہم اب سازش اور بدینتی کی بناء پر من مدعیہ کے حقوق بابت سروس ختم کرنے کی خاطر من مدعیہ کی آسامی پر

مدعا علیہ نمبر 6 کی ہمشیرہ کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ جو کہ بذریعہ حکم امتناعی مدعا علیہم کو ایسے افعال سے باز و ممنوع رکھنا قرین

انصاف ہے۔

(5) یہ کہ من مدعیہ نے مدعا علیہم سے مطالبہ کیا کہ وہ مذکورہ حکم مورخہ 28-12-2021 منسوخ کر کے من مدعیہ کی سروس

بحال کریں اور آئندہ کسی بھی قسم کے غیر قانونی افعال سے باز رہیں۔ لیکن مدعا علیہم ناٹل مٹول کے بعد اب ایک یوم سے

صاف انکاری ہیں۔ بدیں وجہ ضرورت نالاش لاحق ہوئی۔

(6) یہ کہ من مدعیہ کو بنائے دعویٰ و بنائے خصامت ازا انکار مدعا علیہم عرصہ ایک یوم سے اندر حدود ضلع کئی مروت حاصل ہوئی

اسلئے دعویٰ ہذا اندر معیاد، قابل سماعت عدالت آنجناب ہے۔

(7) یہ کہ مالیت بغرض کورٹ فیس و اختیار سماعت - 20000 روپے ہے کورٹ فیس لف ہے۔

لہذا استدعا ہے کہ ڈگری مستدعیہ بعنوان بالا جز الف، ب بحق مدعیہ برخلاف مدعا علیہم صادر فرمائی جاوے بموعہ خرچہ

مقدمہ و دیگر دادرسی جو قرین انصاف ہو بھی صادر فرمایا جاوے۔

مورخہ: 10/1/2022

السلامة

مسماة بی بی زرینہ (مدعیہ)

بذریعہ وکیل خود

تصدیق عبارت

تصدیق کی جاتی ہے کہ مندرجات عرضی دعویٰ

میرے علم و یقین کے درست صحیح ہے

مسماة بی بی زرینہ (مدعی)

لیدالت ضلع - سول جج مہاراجہ کی درت

زومینہ جمالی نیام صوبائی حکومت

دعویٰ استغراق پر احکم انشائی

0 - 14  
13/07/22

Muhammad Ijaz  
Civil Judge/Judicial Magistrate  
Lahki Marwat

دو خواستہ مراد صادر فرمائے دعویٰ عدویہ زیر آرڈر 7 رول 11 ضلع ملکوٹ

ضلع - ملکی!

صوبہ نیل عرض ہے۔

1۔ مقدمہ بالا زیر سماعت عدالت انجنا ہے جس میں آج کی تاریخ مستثنیٰ قرار ہے۔

2۔ یہ عدلیہ نے اپنی مرضی سے ملذمت سے استغنیٰ دیا ہے جو نکلے رہی ہے۔

3۔ یہ عدویہ نے اپنی استغنیٰ کیلئے دعویٰ دائر کیا ہے جو عدلیہ اور عدالت انجنا -  
کے اختیار و سماعت میں ہے۔

4۔ یہ عدویہ ملذمت میں claim کرتی ہے جس کیلئے Proper forum  
Service Tribunal ہے۔

یہ ایک عطا اپنی قانون کوئی بھی ملذمت محکمہ حکومت سے کیلئے سول کورٹ میں دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔

اس کے دیگر کئی سابقہ فیصلے ہیں جن میں عدلیہ اور عدلیہ ملکہ کو اٹھانے کی اجازت دی جا چکی

لینڈ اسٹریٹ میں ابرو جو ریت بالا دیگر دعویٰ عدویہ زیر آرڈر 7 رول 11 ضلع ملکوٹ

6/7/2022

محمد خواجہ  
نیل کیلئے

محمد خواجہ  
نیل کیلئے



لیدرکت صبا سٹون حج ہوائی بند کی اطلاع کا جواب

لیدر زینت بیگم حکومت

دعویٰ التفرادہ

جواب دعویٰ منجانب لیدر علی محمد

1، 2، 3، 4 اور 7

14  
13/7/22

صبا عالی ذیل عدالت سے

Muhammad Ijaz  
Civil Judge / Municipal Magistrate-V

عزیزت عظمیٰ، (i) یہ کہ عدالت صبا لدا قضاوت کے لئے ہے

(ii) یہ کہ مدعیہ عدالت انجمن میں صبا یا اس کے سے نہیں آئی ہے اور صحیح قانونی فیصلہ کی کوشش کر رہی ہے

(iii) یہ کہ مدعیہ کو کوئی (Locus Standi) حاصل نہیں ہے

(iv) یہ کہ دعویٰ مدعیہ زیر اڈاکہ 7 Rule 10 اور 11

قابل افرار ہے۔ یہ سب اس لئے مقدمہ کا

People forum سے نہیں ہو سکتا خواہ

(۷) یہ کہ دعویٰ مدعیہ میں بر واد بر طرف حالات و واقعات اور (vexatious) سے - یہ ۵۰۰ روپے کے عدالتوں میں ریف 35 ACPL کے تحت پیش کرنا۔  
۵ - ۱۱۴  
13/7/22

Muhammad Ijaz  
Civil Judge/Judicial Magistrate-V  
Lahore

عدالت و واقعات اور یہ کہ فقرہ بندہ کے لئے حکیمانہ رہنمائی ہے  
اور یہ کہ فقرہ بندہ میں گھڑت اور طرف حالات و واقعات  
کے ساتھ باقاعدہ نوٹوں سے قانونی طور پر استغنیٰ میں  
کے لئے قانونی تقاضوں کے لئے کہ وہ یہ منظور  
کے لئے کہ نوٹوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے۔  
اور یہ کہ فقرہ بندہ میں عطا اور میں گھڑت کے لئے عدالتوں  
کو بھی کارروائی کی ہے وہ قانونی تقاضوں کے مطابق  
ہے۔ کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔  
(۷) یہ کہ فقرہ بندہ میں عطا اور میں گھڑت کے لئے  
کے لئے اس کے لئے کوئی تعیناتی ہوئی وہ فوراً منظور

کے مطابق ہوگی

۱۷، کہ فقرہ نہ غلط ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ثابت علی کے مطابق

کا حق حاصل نہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود استغناء کیا ہے

۱۷، کہ فقرہ 60 کے غلط اور من گھڑت ہے۔ مدعیہ کو کسی بھی طرح کا

بنا کر دعویٰ حاصل نہیں ہے

vii، کہ فقرہ 7 قانونی اور تفسیری ہے


14  
13/7/22

Printed & Published by  
Darul Uloom Haqqania  
Lahore

کیسڈا استدعا ہے کہ یو جوبائٹ ہالہ دسترس دہوگی



مدعیہ کے لئے جسٹس عرفانہ قانونی اور تفسیری  
ہاں اور مادہ 7

مدعیہ 13/07/22



ڈائریکٹ انٹرنیٹ سروسز

مدعیہ کے لئے جسٹس عرفانہ قانونی اور تفسیری



اعدالت صبا سوگنج صاحبہ کی عدالت

کی زرینہ شاہ حکومت پاکستان

دعویٰ استقراریہ احکم/مقتناعی

15-08-22

درخواست براد Returne کرنے مقدمہ نمونہ بالا زیر دفعہ  
آرڈر 7 جول 10 صالطہ دیوانی بوجوہات ذیل

صبا عالمی ذیل عرضی ہے۔

1۔ یہ کہ مقدمہ نمونہ بالا اعدالت صبا میں زیر سماعت ہے  
جی میں آج کی پیشی مقرر ہے۔

2۔ یہ کہ مقدمہ نمونہ بالا میں چونکہ اعدالت صبا کو  
اختیار سماعت حاصل نہیں ہے اور proper فورم  
سروس ٹریبونل ہے۔ بدین وقت جی مدعیہ کو  
اپنا دعویٰ Returne کرنے بعد اخصار کردہ دستاویزات  
proper فورم میں جمع کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔

لہذا استدعا ہے کہ درخواست گزار منظور فرما کر  
دعویٰ گزار جی مدعیہ کو زیر دفعہ آرڈر 7 جول 10  
صالطہ دیوانی Returne کیا جائے۔

مقدمہ نمونہ 27-7-22

نذیرہ ولی

مدعیہ  
کی زرینہ

J

18

27-7-22

FORM "A"

FORM OF ORDER SHEET

Court of Civil Judge/Judicial Magistrate-V Lakki Marwat

Case # 84/1 of 2022

BIBI ZAREENA VS GOVT OF KPK AND OTHERS

S.No of Order or Proceedings, Date of Order or Proceedings	Order or other proceedings with signature of Judge or Magistrate and that of parties or counsel where necessary
1	2
Or.....15 27.07.2022	<p><b>Attendance:</b> Plaintiff through attorney along with counsel present. Defendant No.06 in person along with counsel present. District Attorney for rest of the defendant's present.</p> <p><b>Proceedings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Case was fixed for written reply and arguments on application for Order-VII Rule-11 CPC submitted by defendant No.06.</li> <li>2. Today learned counsel for plaintiff submitted an application for return of plaint, so that the plaintiff may approach the proper forum. Placed on file.</li> <li>3. Perusal of the record reveals that plaintiff was a Civil Servant in BPS-IV before acceptance of the alleged resignation. The proper procedure for the redressal of grievances of civil servants has been provided in KPK Service Tribunals Act, 1974. Instant suit being instituted in the wrong forum, therefore, application of plaintiff is accepted and plaint is returned to plaintiff as per the mandate of Order-VII Rule-10 CPC to be presented before proper forum.</li> <li>4. The moharrir is directed to create separate file and placed the attested copies of all the documents of the instant case on the separate file. The attested copies of this order be placed on the same file while original documents be returned to plaintiff after fulfillment of the necessary requirements.</li> <li>5. The separate attested file be consigned to record room after necessary completion and compilation within seven days positively.</li> </ol>

TESTED

Examiner to District & Session Judge Lakki Marwat

4408

C.O. No. .... 4408

Application received on... 27-7-22 (Muhammad Ijaz)

Copying Fee deposited on... 27-7-22 Civil Judge-V Lakki Marwat

Judgment received for copying... 27-7-22

No. of Vols. ....

Copying Fee... 13

Search Fee... ..

Urgent... ..

Name of Counsel... ..

Copy Completed on... ..

Copy Delivered on... 27-7-22

Name of Examiner... ..

Muhammad Ijaz  
Civil Judge/Judicial Magistrate-V  
Lakki Marwat

بعد الت جتای سرس طرہ ہوتی صوبہ سندھ پشاور

مستجاب اعلیٰ

فماہ زینہ صبی بنام

دعویٰ اپیل

یا علیٰ سرس

© ————— ©

مستجاب مذکورہ عنون بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی شکل کاروائی متعلقہ آل مقام پشاور کیلئے استعانت اعلیٰ سفارحانہ سے روئے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو وکیل مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کابل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب کو کرنے رہنے نامہ و آفٹر ٹرائل و فیصلہ برتلاف میں جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورتہ ڈگری کرنے اجراء اور دوسری چیک در پیہ اور مرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تقدیر اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور مستحق نیز دائر کرنے اپیل ٹکرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ منکوحہ کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا سفار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تفریقہ کا اختیار ہوگا اور وہ اپنے مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرواختہ منظور قبول ہوگا اور دوران مقدمہ یا جو خرچہ و تر جانہ اتوار مقدمہ کے سبب سے ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب موصوف ہوں گے نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہوگا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام درجہ پر ہو یا مد سے باہر ہو تو وکیل صاحب یا ہند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکور کریں۔

لہذا وکالت نامہ دیکھ دیا کہ سند ہے۔

الرقوم - 22 - 8 - 2

التبید

التبید

التبید

از باب بیغ المال  
ایڈوکیٹ

مسئلہ التماس سفارحانہ  
ایڈوکیٹ

کسر

انجمن کونز  
ایڈوکیٹ